© rasailojaraid.com

اختر راہی

قاضی احمد میاں اختر جونا گڑھی
اور
مطالعۂ مسیحیت سے دلچسپی

ماضیٔ قریب کے بیسیوں اہل علم جن کے تحقیقی کارنامے اس امر کے متقاضی ہیں کہ ان پر مستقل بالذات کتابیں تالیف ہوں، مگر ان کے بارے میں چند تعزیتی تحریروں کے سوا کچھ نہیں ملتا، ان میں سے ایک قاضی احمد میاں اختر جونا گڑھی (م ۱۹۵۵ء) ہیں۔ نظم و نثر میں ان سے متعدد کتابیں یادگار ہیں اور بڑی تعداد میں مقالات اور منظومات ہیں جو رسائل میں دبی ہوئی ہیں۔

قاضی صاحب نے ایک مضمون "اردو کا صحافتی ادب" میں لکھا ہے کہ[1]

> کاٹھیاواڑ ایسے دور افتادہ ملک سے بھی ۱۹۲۶ء اور ۱۹۳۳ء میں دو اچھے رسالے میری نگرانی اور ادارت میں جاری ہوئے یعنی "زبان" منگرول سے اور "شہاب" جونا گڑھ سے، دو دو سال جاری رہنے کے بعد بند ہو گئے۔

"زبان" مولانا عبدالرحمٰن خوشتر منگرولی کی ادارت میں جاری ہوا تھا اور قاضی صاحب اس کے نگران تھے۔ ثانی الذکر جریدہ "شہاب" انھوں نے مولانا سیّد ابوظفر ندوی کے اشترک سے جاری کیا تھا جس کا مقصد کاٹھیاواڑ میں اردو اور اسلامی علوم و معارف کی ترویج تھا۔

ماہنامہ "زبان" اور قاضی صاحب

مولانا عبدالرحمٰن خوشتر منگرولی نے ماہنامہ "زبان" کے اولین شمارے میں مولانا عبدالعزیز میمن (م ۱۹۸۰ء) کے ذکر خیر کے بعد قاضی صاحب کے بارے میں لکھا تھا۔[2]

> دوسری قابلِ ذکر ہستی جس کو کوہ گرنار کی پُر انقلاب تلہٹی نے پیدا کر کے قلّہ کوہ سے بھی بلند آسمانِ علم و کمال پر مثلِ کوکب چمکایا، وہ ہمارے دوست قاضی احمد میاں اختر [جونا گڑھی] ہیں جو دنیائے ادب میں خاصی شہرت رکھتے ہیں اور جن کے نتائجِ افکار سے ہندوستان کے نامی اور چوٹی کے رسائل مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔
> --- ناانصافی ہو گی اگر ہم قاضی صاحب موصوف کی ان مساعی جمیلہ کا اعتراف نہ کریں جو

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

انھوں نے ترتیبِ "زبان" کے متعلق معقول مشورہ اور مضامین کی فراہمی وغیرہ میں کی ہیں۔ "مترجمات" اور "اَخبارِ علمیہ" کے عنوانات آپ نے اپنے لیے مخصوص کر لیے ہیں اور بلا ناغہ ہر ماہ مستقل طور پر اس پر لکھنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے یا یوں سمجھیے جو کام ہمارا تھا اس کا ذمہ لے کر ہمیں ایک زبردست ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا۔

قاضی صاحب نے "مترجمات" اور "اخبارِ علمیہ" کے مستقل عنوانات کے علاوہ "زبان" کے لیے متعدد مقالات لکھے اور ان کی کئی منظومات اس کے صفحات کی زینت بنیں۔ "زبان" اگرچہ گجراتی بولنے والے علاقے سے شائع ہوتا تھا مگر ہر لحاظ سے ایک معیاری جریدہ تھا۔ اسے گجرات کے اچھے اردو لکھنے والوں کا تعاون حاصل تھا اور بیرونِ گجرات کے بہت سے اہلِ علم کے مقالات اور منظومات اس کے صفحات میں جگہ پاتی تھیں۔ مندرجات اور طباعت کے بلند معیار کے باوجود "زبان" خریداروں کی کوئی بڑی تعداد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے مالی مشکلات کا شکار رہا۔ ستمبر ۱۹۲۷ء سے فروری ۱۹۲۸ء کے چھ ماہ میں اس کا کوئی شمارہ شائع نہ ہو سکا۔ مارچ ۱۹۲۸ء کے شمارے میں مدیر "زبان" نے اپنے قارئین کو اطلاع دی کہ ولی عہد منگرول اور محترمہ عالیہ بیگم مناودر نے رسالے کی سرپرستی منظور فرمائی ہے نیز ان کے احباب نے امداد دینے کا وعدہ کیا ہے اس لیے "زبان" شائع ہوتا رہے گا، مگر زبان کا "دورِ جدید" صرف چار شماروں تک محدود رہا۔ چند سال پہلے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ (انڈیا) نے ماہنامہ "زبان" کے تمام شماروں کی یک جا عکسی اشاعت پیش کی ہے۔

قاضی صاحب "زبان" کے دورِ اوّل (یعنی جولائی ۱۹۲۶ء تا اگست ۱۹۲۷ء) میں بہت نمایاں ہیں۔ زبان کے اوّلیں تین شماروں میں موسیو رینان (م ۱۸۹۲ء) کا لیکچر "علم اور اسلام" (ترجمہ: محمد اسماعیل اصلاحی) شائع ہوا ہے۔[۳] قاضی صاحب نے اس کے ابتدائیے میں لکھا ہے۔

> [رینان] نے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اسلام اور علم دو متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس [کے مقالے] کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا اور نہ اس کا جواب سوائے علامہ جمال الدین افغانی کے کسی نے دیا ہے۔ مصر کے ایک عالم یوسف علی مہندس نے رینان کے اس لیکچر کا عربی میں ترجمہ کیا ہے جس کے شروع میں رینان کی مختصر سوانح عمری اور آخر میں بفحوائے الحدید یفلح بالحدید اس کے ہم مذہب، ہم قوم اور ہم وطن موسیو مسمر کے جواب کا بھی ترجمہ کر کے شامل کر دیا ہے جو اس نے اصل فرانسیسی میں لکھا ہے۔ میری استدعا پر میرے دوست مولوی محمد اسماعیل صاحب نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ لیکن ابھی وہ رینان کے سوانح اور لیکچر ہی کا ترجمہ کرنے پائے تھے کہ بعض ضروری کاموں کی وجہ سے اپنے وطن تشریف لے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

گئے۔ اب میں موسیو مسمر کے جواب کا ترجمہ کر رہا ہوں جو ان شاءاللہ آئندہ کسی اشاعت میں ہدیۂ ناظرین ہوگا۔

رینان کے لیکچر کا ترجمہ شائع ہوا مگر موسیو مسمر کے مقالے کا ترجمہ شائع نہ ہو سکا۔ "زبان" کے دورِ جدید کے شمارۂ اوّل میں مدیر نے افسوس کے ساتھ اطلاع دی کہ قاضی احمد میاں اختر جوناگڑھی کو[۴] "سیاست کے دست استبداد نے زبان کے لیے قلم اٹھانے نہ دیا۔"

تاہم "زبان" کے بند ہو جانے کے بعد قاضی صاحب نے رینان کا لیکچر، موسیو مسمر کا جواب، رینان کی جانب سے جواب الجواب اور سیّد امیر علی کا تبصرہ (جو "اسپرٹ آف اسلام" میں شامل ہے۔) ایک کتابچے کی شکل میں "علم اور اسلام"[۵] کے عنوان سے شائع کر دیا تھا۔ البتہ انہیں علامہ جمال الدین افغانی کا مضمون[۶] نہ مل سکا اور وہ شامل ہونے سے رہ گیا۔

"عالم اسلام اور عیسائیت" کے قارئین کی دلچسپی کے لیے ماہنامہ "زبان" (منگرول) سے قاضی صاحب کے عنوانات "مترجمات" اور "اخبارِ علمیہ" سے مسیحیت کے بارے میں چند اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں۔

حواشی

۱۔ قاضی احمد میاں اختر جوناگڑھی، مضامین اختر جوناگڑھی، کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان (۱۹۸۹ء)، ص ۴۱۲

۲۔ ماہنامہ زبان (منگرول)، جولائی ۱۹۲۶ء، ص ۶

۳۔ ایضاً، ص ۱۴-۱۵

۴۔ ایضاً، ۹-۱۰

۵۔ اعظم گڑھ: معارف پریس (۱۹۳۰ء)، ۵۸ ص

۶۔ علامہ جمال الدین افغانی کا مقالہ فرانسیسی میں تھا۔ اس کے انگریزی ترجمے کے لیے دیکھیے:
Nikki R. Keddie.,An Islamic Response to Imperialism: Politicial and Religious Writings of Sayyid Jamal-ud-Din "al-Afghani" Berkeley: University of California Press (1983), pp. 181-189.

لفظ "مسیح" کی اصلیت

اصل میں یہ لفظ عبرانی میں "مشیح"، سریانی میں "مشیحو" اور کلدانی میں "مشیحا" ہے جو لفظ "مشح" سے مشتق ہے اور جس کے معنی "مسح" کے ہیں۔ علامہ احمد فارس الشدیاق اپنی کتاب "الجاسوس علی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

القاموس" (صفحہ ۴۹) میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ دستور تھا کہ جب ان میں کوئی بادشاہ بنایا جاتا تو احبار یہود اس کے جسم کو تیل ملا کرتے تھے۔ اس لیے جب کوئی "مسح" کیا جاتا تو وہ اس کو "مسیح الرب" کہتے تھے، جو ان کے ہاں بادشاہ کا مترادف سمجھا جاتا تھا۔ جب اپنے انقراض مملکت کے بعد یہود مسیح (یعنی بادشاہ) کی آمد کے منتظر ہوئے جو ان کو اس ذلت اور تباہی سے نجات دے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث برسالت ہوئے اور ان سے معجزات ظاہر ہوئے تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کو "مسیح ناجی" ماننے لگے۔ مگر انہوں نے جب آپ کو تارک الدنیا اور ان کے فرشتوں کا ارضی نہیں بلکہ سماوی ہونا معلوم کیا تو کہنے لگے کہ آپ کا "مسح" الٰہی اور روحانی ہے مگر اس قول سے ان لوگوں کی تشفی نہ ہوئی جو مجازی نہیں بلکہ حقیقی "دنیوی مسیح" کے منتظر تھے۔ چنانچہ اب تک یہود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل مسیح نہ تھے۔ بادشاہ یا حاکم کو تیل ملنے کا رواج آج بھی حبش میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ان کے سلاطین سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اب تک تورات کی بعض سنتوں مثلاً ختنہ، اباحت تسری وغیرہ پر ان کا عمل درآمد ہے۔

اسلام اور دانتے

مجریط (اندلس) کے ایک زبردست مستشرق اور عربی کے جیّد عالم پروفیسر آسین نے اٹلی کے نامور شاعر دانتے کی مشہور کتاب ڈیوائن کامیڈی (Divine Comedy) کا مقابلہ اسلامی تصانیف سے کرکے بتایا ہے کہ دانتے نے اپنی کتاب میں اسلامی خیالات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اسی پر اکتفا نہ کرکے پروفیسر موصوف نے امام ابنِ عربی کی تصانیف سے مثالیں پیش کی ہیں اور ان کا مقابلہ دانتے کی عبارت سے کرکے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مشابہت و مماثلت کوئی اتفاقی حیثیت نہیں رکھتی --- پروفیسر سر ٹی۔ ڈبلیو۔ آرنلڈ نے رسالہ "منارۃ" میں اس پر ایک مقالہ سپرد قلم فرمایا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں۔

> انگریزی کی ان تمام عظیم الشان اور معرکتہ الآراء کتابوں میں جو حال میں شائع ہوئی ہیں، ایک کتاب "اسلام اور ڈوائن کامیڈی" ہے جس کو اندلس کے ایک مشہور عربی دان عالم پروفیسر آسین نے (جو مجریط کی یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر ہیں) اسپینی زبان میں تصنیف کیا ہے جب پہلے پہل یہ کتاب ۱۹۱۹ء میں شائع ہوئی تو یورپ اور امریکہ کے علمی حلقوں میں خصوصاً دانتے کے شیدائیوں میں ایک ہل چل مچ گئی۔ مؤخرالذکر گروہ کے لیے تو یہ معلوم کرنا یقیناً ایک سخت اور ناقابل برداشت صدمہ تھا کہ کتاب "ڈوائن کامیڈی" جو قرونِ وسطیٰ کے کلیسائے کاتھولیکیہ کے دینیات، فلسفہ اور علم

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

الکائنات کی "دائرۃ المعارف" ہے، اپنی نمایاں خصوصیتوں میں اسلامی ماخذ کی رہینِ منت ہے، پروفیسر آسین نے اپنے اس جرأت آمیز نظریہ کی تقویت و اثبات کے لیے زبردست شواہد پیش کیے ہیں اور عربی لٹریچر پر اپنے کامل عبور، خصوصاً صوفیائے اسلام میں سے ابنِ عربی کی تصانیف سے --- اپنی گہری واقفیت کا ثبوت دیا ہے۔ پروفیسر موصوف نے ان مشہور اندلسی عالم و فلسفی کی تصانیف کا خاص طور پر مطالعہ کیا ہے جنہوں نے دانتے کی ولادت سے صرف ۲۵ برس پہلے وفات پائی۔ پروفیسر آسین نے ہر دو مصنفین کے کلام میں مشابہت کی کئی مثالیں پیش کر کے دونوں کے طرزِ بیان اور صوفیانہ استعارات و تشابیہ کو بتلایا ہے جو ان دونوں فلسفیوں کی تحریر میں پائے جاتے ہیں۔

اس کے بعد دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سر آر نلڈ لکھتے ہیں۔

دانتے کی مشہور نظم کا موضوع، جیسا کہ عام طور پر معلوم ہے، دوزخ، اعراف اور بہشت میں نشأۃ ثانیہ کا بیان ہے۔ پروفیسر آسین دانتے کے بیان کا مقابلہ اسلام کے واقعۂ معراج کے بیان سے کرتے ہیں جو عربی لٹریچر میں بہت اہم بات کہتا ہے، بعض مسلمان مصنفین نے واقعات معراج کو بطور تاریخی واقعات کے لکھا ہے اور بعض مصنفین نے صوفیانہ رنگ میں ان کا ذکر کر کے اعمال نیک کے ثواب اور گناہوں کے عذاب کے متعلق ان کو اخلاقی تعلیم کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم اس وقت ان جزئیات کو پیش نہیں کرنا چاہتے جن کو پروفیسر آسین نے فاضلانہ طور پر پیش کیا ہے کیونکہ یہ کتاب اب انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہے اور انگریزی دان اصحاب کے لیے سہل الحصول ہے۔ پروفیسر موصوف کی پیش کردہ متعدد مثالیں ایسی واضح اور مشابہ ہیں کہ ان کو اتفاقات میں نہیں شمار کیا جا سکتا۔ ضمناً یہ کتاب مذہب اسلام کے مطالعہ اور قرونِ وسطیٰ کے یورپ پر اسلامی اثرات پر بہت روشنی ڈالتی ہے۔

کتاب سعد السعود

ایران کے ایک نامور عالم شیخ ابو عبداللہ زنجانی نے مصر کے نامور ادیب احمد تیمور پاشا کو ایک خط لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں۔

مجھے کتاب "سعد السعود" دستیاب ہوئی ہے جس کو ۶۵۱ھ میں علی بن موسیٰ بن محمد الطاؤس نامی امامیہ کے ایک عالم نے تالیف کیا تھا۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ مؤلف نے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

صحف سماوی مثل قرآن، توراۃ، انجیل، صحف ادریس اور قدماء کی چند تفاسیر فی سبیل اللہ وقف کر دیں جو اگرچہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تاہم ابن الندیم نے "الفہرست" میں ان کا ذکر کیا ہے، مولف نے ان ہی کتابوں سے عمدہ اور مفید انتخابات اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ ان منقولات میں سب سے زیادہ اہم ایک نسخہ انجیل کی آیات ہیں جن کے شروع میں لکھا ہے "شرح انجیل جس کو مالا مطران --- نے امیرالمومنین المامون کے لیے اس سن میں تصنیف کیا جبکہ نسطوریہ نے یعاقبہ پر خروج کیا تھا اور خلیفہ نے اس کی اعانت کی تھی۔ سریانی سے عربی میں دونوں زبانوں کے علماء کی موجودگی میں منتقل کیا گیا۔ انجیل کا وہ نسخہ (سریانی) اصل نسخہ سے نقل کیا گیا تھا اور یہ نسخہ اس (سریانی) نسخہ سے نقل کیا گیا ہے۔

اس انجیل کی آیات اور موجودہ انجیل کی آیات میں بھی فرق پایا جاتا ہے صحف ادریس کو مولف نے کوفہ کے "مشہد الطاہر" کے وقف کی ایک کتاب سے نقل کیا ہے جس پر "سنن ادریس" لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ

بخط عیسیٰ محرر، سریانی سے عربی میں ابراہیم بن ہلال بن ابراہیم بن ہرون الصابی الکاتب نے نقل کیا۔

ہرون غالباً زھرون کا محرف ہے اور یہ صابی وہی مشہور و معروف مترجم اور انشا پرداز ہے۔ بہر حال اس کتاب سے بہت سے علمی، ادبی اور تاریخی معلومات حاصل ہوتے ہیں۔

ایک فرانسیسی کی تعریف اسلام

موسیو سرویر (Servier) ایک فرنچ مشنری مصنف ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہر وقت زہر اگلنے پر مستعد رہتا ہے۔ حال میں اس نے ایک کتاب "سائیکالوجی آف دی مسلمان" کے نام سے لکھی ہے۔ مسٹر اے۔ کن روس (Kinross) انگریزی کے رسالہ "انگلش ریویو" میں اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

انگریز لوگ اسلامی ترقی کو ممکن خیال کرتے ہیں جبکہ موسیو سرویر اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ان کے نزدیک مذہب اسلام ایک وقتی مذہب ہے جو منجمد، مُردہ اور ناقابل تغیر و ترمیم ہے۔ اس کے خیال میں نصف تعلیم یافتہ مصریوں ہی نے اپنی قومیت کا زہر تمام عالم اسلامی میں افریقہ کے فرنچ مقبوضات تک پھیلا رکھا ہے۔

مسٹر کن روس موسیو مذکور کے ان نتائج پر چیلنج دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

کیا ایک مسلمان مصنف موسیو سرویر کے تتبع میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسائی مذہب ایک خاص وقت کے لیے تھا اور کہ وہ منجمد، مردہ اور ناقابل ترمیم ہے اور کیا وہ اس کی دلیل چھین کر اہل پروشیا کو مثال میں نہیں پیش کر سکتا جنھوں نے نائرۂ جنگ وجدال مشتعل کیا اور صلح کو اپنی فریب بازیوں سے اُڑا دیا؟ کیا وہ روم اور کلیسائے روم کو پیرو (Pero) میں اہل اسپین کی کارروائیوں، سینٹ بارتھولمیو کی خون ریزیوں، اور ملٹن کے "اولیائے مقتول" (Slaughtered Saints) اور اسی قسم کے چھوٹے بڑے مظالم سے تعبیر نہیں کر سکتا؟

موسیو مذکور کے حق میں یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ وہ ان مسلمانوں سے خائف معلوم ہوتے ہیں جبکہ ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے۔

اکبر کا مذہب (عہدِ مغلیہ کی تصاویر پر سے)

ریورنڈ ٹ ایچ -ہراس نے جو سینٹ زیویر کالج (بمبئی) میں تاریخ کے پروفیسر ہیں، "مغلیہ تصاویر اکبر کے مذہبی مباحثات پر" کے عنوان سے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے ایک جلسہ میں بزیر صدارت سر للّو بھائی شاہ ایک دلچسپ لیکچر دیا تھا، جس کا ملخص حسب ذیل ہے۔

ابتداء میں مقرر نے کہا کہ وہ صناعی نقطۂ خیال سے اس موضوع پر کچھ نہیں کہے گا۔ بلکہ وہ صرف ان تصاویر سے اکبر کے مذہبی مباحثات پر ایک تاریخی تبصرہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ مقرّر نے کہا کہ یوں تو تمام تاریخ دستاویزی سندات پر مبنی ہوا کرتی ہے مگر نقوش و تصاویر بھی مستند دستاویزیں ہونے کے لحاظ سے استناد کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا کہ اکبر ایک صوفی مزاج بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہندوستان کا اتحاد تمام تر مذہبی اتفاق پر منحصر ہے، لہٰذا اس نے مذہبی مباحثوں کو ترقی دی۔ متعدد تواریخ سے اس واقعہ کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا مزید ثبوت اس "عبادت خانہ" سے ملتا ہے جس کو اکبر نے ان مباحثات کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ وہاں تمام مذاہب کے نمائندے ہندو، پارسی، عیسائی، مسلمان، جینی اکبر کی سرپرستی میں جمع ہوتے تھے۔ ۱۵۷۳ء سے ۱۵۷۹ء تک اکبر ہندو مذہب کے زیر اثر تھا جس کی وجہ راجپوت کماریوں کے ساتھ اس کا عقد اور بیربل کی مصاحبت تھی اور دستور مہرجی رانا کے دربار اکبری میں شامل ہونے کی وجہ سے زردشتی مذہب کا اثر اکبر پر پڑا۔ چنانچہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگرچہ اکبر اپنے دل سے ایک صوفی ہے مگر وہ رسومِ مذہبی کے لحاظ سے پارسی ہو گیا ہے۔ یہ اثر ۱۵۸۰ء سے ۱۵۸۳ء تک رہا۔ پھر اکبر نے اپنے دربار میں تین یسوعی پادریوں کو بلایا۔ چنانچہ ۱۵۸۳ء سے ۱۵۸۷ء تک اس کا میلان عیسائیت کی جانب رہا۔ فادر مونسٹراٹ اور فادر اکوا

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

ویوا مشہور عیسائی تھے جنہوں نے اکبر پر یہ اثر ڈالا تھا۔

اس کے بعد مقرر نے ان تینوں تصویروں کو جو عبادت خانہ کی تھیں، پیش کیا۔ یہ تصاویر پونا سے ہاتھ لگی تھی جہاں غالباً عہدِ پیشوا میں آگرہ سے لائی گئی تھیں۔ ان تصاویر میں درختوں سے گھری ہوئی چھوٹی سی ایک پہاڑی کے دامن میں اکبر مختلف مذاہب کے علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوا ان کے مباحثہ میں سرگرم نظر آتا ہے۔ مقرّر کا قیاس ہے کہ یہ پہاڑی فتح پور کے قریب ہوگی۔

مسیح علیہ السلام کے وجود سے انکار

مندرجہ بالا عنوان سے ولایت کے مشہور اخبار "نیشن" نے اپنی تازہ اشاعت میں ایک مقالہ شائع کیا ہے جس کا ملخص حسب ذیل ہے۔

امریکہ کے ایک شخص جارج برانڈس نے (Jesus: A Myth) کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مسیح کی شخصیت بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، جیسے کہ ہرقلیس اور پرامیتھس کی شخصیتیں لوگوں نے وضع کرلی ہیں۔ یہ کوئی جدید نظریہ نہیں ہے، تنقید بائبل کے آغاز سے ہی اس کی ابتداء ہوچکی ہے جس کو تقریباً ڈیڑھ سو سال ہوچکے ہیں اور اس نظریہ کی ترقی یافتہ صورت کو پچاس سال سے زائد عرصہ نہیں گزرا۔ یقیناً یہ مسئلہ ارتقاء مسیحیت کے مطالعہ کی راہ میں حائل ہونے والی مشکلات کے لیے بہت جلد حل طلب ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ عہد نامۂ جدید تاریخی حیثیت سے بالکل پایۂ استناد سے گرا ہوا ہے، اور کئی صدیوں تک اس کی صحت کے متعلق کوئی سوال پیدا نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تاریخی تنقید کے اصول مدوّن ہونے سے پہلے کلیسائے عیسوی کا اقتدار و اثر پورے عروج پر تھا، اور صدیوں تک جو لوگ اس بات کو ماننے کے عادی ہوچکے تھے کہ ہومر کی الیڈ کی تلخیص جنگ تروجن (Trojan) کو برائے العین مشاہدہ کرنے والے ایک شخص نے تیار کی ہے اور جو قسطنطین کے موضوع "عطیہ" کو بلاچون وچرا تسلیم کرتے رہے، وہ کبھی اس اساسی دستاویز پر اعتراض نہیں کرسکتے تھے جو ان کے مذہب کی مؤید تھی۔ حتیٰ کہ مارٹن لوتھر نے بھی اناجیل اربعہ کے اتحاد مضامین پر اپنے عدم اطمینان کو صاف طور پر ظاہر کردیا۔

۱۷۸۲ء میں جرمن عالم کارل فرائڈرخ بہروت نے اس نظریہ کو ترقی دی کہ مسیح فرقہ ایسنز (Essenes) کی ایک پوشیدہ جماعت کے ہاتھ میں کٹھ پتلی کی طرح تھا جس کے ذریعہ سے وہ یہودیوں کو اپنی مادی رسم "مسیح" کے خیال سے ہٹانا چاہتی تھی۔

پون صدی کے بعد برنو باور حیات مسیح سے متعلق پختہ معاصرانہ شہادت کی عدم موجودگی میں کوئی معقول عذر تلاش کررہا تھا۔ اس نے "مخفیٔ انجمن" کے اس نظریہ کو ایک نئی تحریک دی، اور بڑی جرأت

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

سے اناجیل کی تاریخ تصنیف (دوسری صدی عیسوی) سے مفر کرتے ہوئے اس بات کو ظاہر کیا کہ مسیح کا قصہ یزو بادشاہ روم کے عہد میں ایجاد ہوا ہے۔ اور اس پر آج تک حاشیہ آرائی ہوتی رہی ہے۔ اس نے یہ استدلال کیا کہ عہد جاہلیت (قبل مسیح) کے فلاسفر، خصوصاً سینیکا (Seneca) عیسائیت کے ان اخلاقیات کی تدوین بہت پہلے کر چکے تھے، البتہ وہ اپنے خیالات کی عام اشاعت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو ایک ایسی شخصیت سے منسوب کرنا چاہا جس میں "مافوق افطرۃ" ہونے کی دلکشی پائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے مسیح کا اسطورہ (Myth) وضع کر لیا۔

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے نظریات تاریخی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس "مافوق الفطرۃ مصنوعی شخصیت" سے تو بہر حال کچھ کم ہی قابل اعتماد ہوتے ہیں--- [ان نظریات کے حامل لوگ حضرت مسیح کے] ان معجزات کی بہ نسبت اپنے نظریوں کے لیے زیادہ اعتماد کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد دلاتے ہیں جو کسی عقیدت مند نے ایک مشہور معقولی سے طعناً کہی تھی کہ "وہ ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ وہ بائبل میں نہ ہو۔" اساطیر دراصل اس قدر موضوع اور مخدوش نہیں ہوا کرتے جس قدر کہ ان کی روایت کا طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک کے منہ سے نکل کر دوسرے کے منہ تک پہنچتے پہنچتے کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اگر مسیح کی شخصیت ایک قصہ کہانی ہے تو وہ کسی مخفی انجمن کی وضع و اختراع نہیں ہے بلکہ رفتہ رفتہ انسانی ضرورت اس کو وضع کرنے کی داعی ہوئی ہے۔

یقیناً عیسائی یا ملحد علماء کی ایک کثیر جماعت اس بات پر اتفاق کرے گی کہ "روایات کا مسیح" "تاریخی مسیح" سے بالکل جداگانہ ہے اور اکثر لوگ اس کو تسلیم کریں گے کہ یہ اسطورہ خواہ کتنا ہی غلط اور قابل اعتراض ہو، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرور کوئی تاریخی شخصیت ہونی چاہیے جس کے متعلق لوگوں نے بعد میں مبالغہ کر دیا ہے۔

تا نباشد چیزکے مردم نگویند چیزہا

مسیح کے وجود سے متعلق اطمینان بخش شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور اگر یوسی فس کا دستیاب ترجمہ، جس میں مسیح کا ذکر موجود ہے (اور جسے عام طور پر زمانۂ مابعد کی تفسیر سمجھا گیا ہے) فی الحقیقت اتنا ہی قدیم ہو جتنا کہ کہا جاتا ہے تو مسیح کے تاریخی وجود کا یہ ایک بین ثبوت ہو سکتا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان "مکالمے" کی ضرورت

[نیروبی کے کیتھولک جریدہ "نیوپیپل" بابت جنوری - فروری ۱۹۹۳ء کی اشاعت میں مدیر نے افریقہ کے حوالے سے مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان "مکالمے" کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ذیل میں اداریے کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مدیر]

اسلام اور مسیحیت دونوں کئی صدیوں سے افریقہ میں موجود ہیں۔ دونوں مذہب خدائے واحد کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ مسلمانوں اور مسیحیوں میں کئی قدریں مشترک ہیں۔ خاندانی زندگی، مسجدوں یا چرچوں میں اجتماعی عبادات اور غریبوں کے لیے امداد کی فراہمی چند ایسی قدریں ہیں جن پر مسلمان اور مسیحی دونوں متفق ہیں کہ انہیں ہماری روزمرّہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ مگر اس کے باوجود افریقہ کے چند ملکوں میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بعض مسیحی فرقے مسلمانوں اور ان کے مذہب یعنی اسلام کا واجبی احترام کرتے ہیں یا سرے سے نہیں کرتے۔ یہ لوگ تمام مسلمانوں کو مسیحی بنانا چاہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں مسلمان مسیحیوں پر اپنے شرعی قوانین مسلط کرنا چاہتے ہیں اور مسلم حکومتوں میں مسیحیوں کو ملازمتوں سے الگ تھلگ رکھتے ہیں۔

یہ امر ظاہر ہے کہ اسلام اور مسیحیت افریقہ میں آئندہ کئی عشروں بلکہ صدیوں تک فعّال رہیں گے۔ افریقہ نہ تو مکمل طور پر مسیحی برّاعظم ہوگا نہ مسلمان ہی۔ مسیحیت، اسلام، روایتی افریقی مذاہب اور دوسرے مذاہب افریقہ میں موجود رہیں گے۔

مسیحیوں اور مسلمانوں کو دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی کوشش کریں اور افریقہ کی ترقی کے لیے اس طرح باہم تعاون کریں کہ دونوں مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے ایمان پر موثر انداز میں عمل کر سکیں، یا پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں کشیدگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ افہام و تفہیم اور باہمی احترام امن کا باعث ہوگا جب کہ ایک دوسرے پر برتری کی کوششوں کے نتیجے میں کشیدگی اور تصادم جنم لے گا۔

کیتھولک چرچ کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیں اسلام کا احترام کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح پُرامن طور پر رہا جا سکتا ہے۔ جولائی ۱۹۹۲ء میں روم میں پوپ نے مسلم - مسیحی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ "میں آپ کے خیالات کو سراہتا ہوں کیونکہ میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی جانب سے مل جل کر آج کے مسائل کو سمجھنے کی سنجیدہ کوششوں کی حوصلہ افزائی اور حمایت کرتا ہوں۔ ہم خدا پر، جو ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے، ایمان رکھنے والوں کی حیثیت سے دنیا کو بہتر بنانے کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ ہم یہ فریضہ مؤثر طور پر اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ مسائل کا محتاط تجزیہ کر کے ہم صورتِ حال سے باخبر ہوں اور ان مسائل پر اپنے اپنے قابلِ احترام مذہب کی روشنی میں گفتگو کریں۔"

مسلمانوں کے ساتھ مؤثر تبادلۂ خیال کے لیے ضروری ہے کہ مسیحیوں کو اپنے عقائد پر پورا عبور ہو اور عقائد کے ساتھ لگاؤ ہو۔ انہیں ہمیشہ سمجھنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ اسلام اور ان مسلمانوں کا احترام کریں جو اپنے دین پر عمل کرتے ہیں۔

جب مسلمان اور مسیحی اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں افریقی اقوام کو درپیش بہت سے سماجی اور معاشی مسائل کے کم کرنے کے لیے راہیں تلاش کرنی چاہییں، نیز ایسے سیاسی، معاشی اور سماجی اداروں کی تشکیل میں مدد دینی چاہیے جو مسلمانوں، مسیحیوں اور تمام دوسرے افریقیوں کو آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کا موقع فراہم کریں اور سب لوگ امن و امان سے زندگی بسر کر سکیں۔

مشرقِ وسطیٰ

"یروشلم عرب اسلامک - کرسچن کونسل" کا بیان

[۴ اگست ۱۹۹۲ء کو یروشلم (بیت المقدس) میں ایک فلسطینی وفد نے حسبِ ذیل بیان ویٹیکن کے نمائندے کے حوالے کیا تاکہ پوپ جان پال دوم کو پہنچا دیا جائے۔]

"فضیلت مآب نمائندہ ویٹیکن، یروشلم

"یروشلم عرب اسلامک - کرسچن کونسل" اس خبر پر اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہے کہ اسرائیل اور ویٹیکن کی مشترک کمیٹی قائم ہوئی ہے جسے مستقبل کے باہمی تعلقات پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ لازمی امر ہے کہ کمیٹی ریاست فلسطین کے دارالحکومت یروشلم کی حیثیت کے مسئلے پر بات چیت کرے گی۔

ہماری کونسل مسئلۂ فلسطین اور فلسطین کے عرب عوام (جن میں شہرِ امن یروشلم کے عوام بھی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

شامل ہیں) کے حقوق کے بارے میں ویٹیکن کے نقطۂ نظر کی تعریف کرتی ہے اور یہ تعریف بالکل بجا ہے تاہم ہماری کونسل آپ کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہے کہ یروشلم سے متعلق گفتگو میں اس شہر پر صدیوں سے قائم عرب اقتدار کو نظر انداز نہ کیا جائے گا جسے خلیفۂ راشد حضرت عمرؓ کے تاریخی میثاق کی ضمانت حاصل ہے، اور خود یہ میثاق اسلامی رواداری اور پیغمبرِ امن و انصاف حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر مبنی ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ ویٹیکن کے ساتھ بات چیت کسی ایسی پالیسی پر منتج نہیں ہوگی جس سے مستقبل میں شہرِ مقدس کی حیثیت بری طرح متاثر ہو۔ ہمارے دلوں میں پوپ کے لیے جو بے پناہ احترام، اعتماد اور تعریف و توصیف کے جذبات ہیں، براہ کرم ان تک پہنچا دیجیے۔

بااحتراماتِ فائقہ

سعدالدین علامی (مفتی یروشلم، صدر المجلس الاعلیٰ الاسلامی)، مشل صباح (لاطینی بطریق، یروشلم)، انور خطیب (نائب صدر، المجلس الاعلیٰ الاسلامی)، امین ماجوج (یروشلم کے قائم مقام فلسطینی میئر)، سمیر کافتی (صدر بشپ اینگلیکن چرچ)، لطفی لاحم (پاسبان بطریقیہ ملکیہ)، حسن (سیکرٹری، المجلس الاعلیٰ الاسلامی)، محمد حسین (خطیب مسجد اقصیٰ و رکن المجلس الاعلیٰ الاسلامی)، داؤد حدّاد (بشپ، یروشلم)، غازی جعبری (مجلس اوقاف، رکن المجلس الاعلیٰ الاسلامی)، حنّا سنیورا (مدیر اعلیٰ "الفجر")، علی تنویر (صدر یروشلم چیمبر آف کامرس، رکن المجلس الاعلیٰ الاسلامی)، فائق برکات (ڈائریکٹر یروشلم چیمبر آف کامرس)، جارج خدیر (نائب صدر، یروشلم چیمبر آف کامرس)، زکریا کاک پی - ایچ - ڈی (ڈائریکٹر عرب کونسل برائے عوامی امور)، یوسف عویدہ (رکن یروشلم چیمبر آف کامرس)، احمد حشین (رکن یروشلم چیمبر آف کامرس)، عبداللہ خوری (ڈاکٹر فرنچ ہسپتال)، ایملی جارجوئی (ڈاکٹر، کاریتاس ہسپتال)، ابراہیم حطر (عرب کمپنی برائے قرضہ و ترقی)، ابراہیم (ایڈووکیٹ، یروشلم) ولید عسالی (ایڈووکیٹ، یروشلم)، عیسیٰ ابوالھوا (ایڈووکیٹ، یروشلم)، اسماعیل تریز (ماہر ادویہ، یروشلم)، [رپورٹ: "مڈل ایسٹ کرسچن کونسل نیوز" بحوالہ "فوکس"—لیسٹر، اکتوبر ۱۹۹۲ء]

© rasailojaraid.com